

10th Class Home Economics Chapter 7 Art in Everyday Life KPK Boards Online MCQ's

Sr	Questions	Answers Choice
1	غذا کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے:	A. دو ہفتے B. ایک ہفتہ C. سات ہفتے D. چار ہفتے
2	ہر چیز جو ہم کھاتے ہیں، کھاتی ہے	A. خوراک B. دوپہر کا کھانا C. رات کا کھانا D. ناشتہ
3	پرانے کپڑوں کو نیا بنانے سے ہوتی ہے	A. عزت B. بچت C. قدر و قیمت D. ترقی
4	پرانے کپڑوں کو ردو بدل کر کے نیا بنانا کوئی کام نہیں	A. مشکل B. آسان C. بے فائدہ D. بے کار
5	پرائی ساڑھیوں سے بنائے جاسکتے ہیں	A. سوٹ B. کوٹ C. جرسی D. اوور کوٹ
6	سوٹوں کے دوپٹوں سے تیار کی جاسکتی ہے	A. بتلون B. شرٹ C. شلوار D. قمیض
7	شلوار کے پانچے تنگ ہو تو چوڑے کیت ے جا سکتے ہیں	A. کپڑا ڈال کر B. نیفہ ڈال کر C. پہلے دونوں D. کوئی بھی نہیں
8	شلوار کی لمبائی بڑھانے کے لیے ڈالا جاسکتا ہے	A. نیفہ B. کپڑا C. ٹیزائن D. کوئی بھی نہیں
9	کرتے کی چوڑائی بڑھانے کے لیے ڈالا جاسکتا ہے	A. پھولوں کا B. لیس کا C. رین کا D. کلیوں کا
10	اگر قمیض چوڑائی میں تنگ ہے تو گھیر دار فراک تیار ہو سکتا ہے	A. ہم رنگ پٹیل لگا کر B. لیس لگا کر C. مختلف انداز میں پٹیل ڈال کر D. پہلے دونوں
11	کپڑوں کو فیشن کے مطابق کرنے کے بارے میں کتنی تجاویز ہیں	A. 8 B. 9 C. 10 D. 11
12	لباس کی سلانی کوئی کام نہیں	A. بے فائدہ B. آسان C. مشکل D. محنت طلب
13	ہماری خوراک میں کتنے امینو ترشوں کا موجود ہونا ضروری ہے	A. چیزوں کی ترتیب B. حرکت کی شکل میں C. ساکن شکل میں D. مختلف اشکال سے
14	کون سا وٹامن دماغ اور اعصاب کو مضبوط بنا تا ہے	A. وٹامن بی B. وٹامن اے C. وٹا من ڈی D. وٹامن سی
15	غذا مہیا کرتی ہے	A. صحت و تندرستی B. وزن بڑھانا C. قد بڑھانا D. رنگ گورا کرنا

